



سوال

(690) فوٹو کی شرعی حیثیت

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

دوران مطالعہ فوٹو کے جواز کے متعلق کچھ ضعیف و غریب روایات نظر سے گزین کہ جن کے حوالے میں فی الوقت نہیں دے سکتا۔ دوسرے یہ کہ علمائے حنابلہ نے تصویر کے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ اسی طرح سعودی عرب کے علماء نے کرنی نوٹوں پر تصویر کے جواز کی بنیاد کن دلائل پر رکھی ہے۔ یہ سوال تو پر اگندہ سا ہے مگر درست رہنمائی تو آپ پ جیسے اہل نظر عقری صلاحیتوں کے مالک شیوخ ہی کر سکتے ہیں۔

ازراہ مہربانی یہ ارشاد فرمائیں، فوٹو کے جواز کے بارے میں یہ روایات کہیں یہ بجاہل سختی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر ذخیرہ احادیث میں ان کا کسی نہ کسی حد تک وجود بھی ملتا ہو اور موجودہ دنیا کا نظام بھی اسی "غیر شرعی" فتنہ پر چل رہا ہو تو اس محلے میں اس حد تک شدت روا رکھنا کیوں نہ مناسب ہے۔ (ایک سال) (۲ مارچ ۱۹۹۵ء)

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

اسلامی شریعت میں بے شمار نصوص ایسی ہیں جو تصویر کشی کی حرمت پر دال ہیں۔ چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ **نَفْلٌ مُصْوَرٌ فِي النَّارِ** (صحیح مسلم، باب لَأَنَّهُ خُلُقُ الْمَلَائِكَةِ يَنْتَافِي كُلُّهُ وَلَا صُورَةُ، رقم : ۲۱۱۰)

"ہر مصور جسم رسید ہو گا۔"

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا قلم کون ہو گا جو میری طرح تخلیق کرنی چاہتا ہے۔ (اگر ان میں طاقت ہے) تو ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائیں یا ایک دانہ بنا کر دکھائیں یا ایک بال پیدا کر کے دکھائیں۔ (صحیح مسلم، باب لَأَنَّهُ خُلُقُ الْمَلَائِكَةِ يَنْتَافِي كُلُّهُ وَلَا صُورَةُ، رقم : ۲۱۱۱، صحیح البخاری، رقم : ۵۵۵)

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے آنحضرت ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی تو اسے قیامت کے دن یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، حالانکہ وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ (صحیح مسلم، باب لَأَنَّهُ خُلُقُ الْمَلَائِكَةِ يَنْتَافِي كُلُّهُ وَلَا صُورَةُ، رقم : ۲۱۱۰، صحیح البخاری، رقم : ۲۲۲۵)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے۔ خواہ اس کا سایہ ہو یا نہ ہو، ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا کمرہ سے نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہ جس تصویر کو



بت کو بھی دیکھیں اسے مٹا دالیں۔ (صحیح مسلم، باب الامر بِتَبْویثِ النَّفَرِ، رقم: ۹۶۹، المستدرک للحاکم، کتاب الجنازہ، رقم: ۱۳۶۶)

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوبارہ ان میں کسی چیز کا ارتکاب کرے اس نے دین و شریعت کا انکار کیا۔ جسے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل کیا گیا ہے۔ فتح الباری: ۱۲۲، طبع طلبی: ۵۔

حافظ ابن حجر حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا

‘ان اصحاب بِذِهِ الصُّورِ يَعْذِلُونَ لِوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقَالُ لَمْ اجِدَا خَلْقَنِمْ وَقَالَ انَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ’

”یعنی اصحاب صور کے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے اور ان کو کجا جائے گا جو کچھ تم نے بنایا اس کو زندہ کرو اور فرمایا جس کھر میں تصویر ہو فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“
کی تشریع کے ضمن میں فرماتے ہیں، کہ اس سے معلوم ہوا کہ سب تصویریں حرام ہیں اور اس اعتبار سے قطعاً کوئی فرق نہیں کہ ان کا سایہ ہے یا نہیں۔ وہ پشت سے بنائی گئی ہیں یا تراشی گئی ہیں یا کرید کر بنائی گئی ہیں یا ہن کر بنائی گئی ہیں۔ (فتح الباری: ۱۱/۵۱۳)

آج کے دور میں کچھ علماء فوٹوگرامی کی تصویروں کو جائز قرار دھیتے ہیں لیکن ان کے پاس واضح کوئی دلیل نہیں۔

شیخ مصطفیٰ جامعی نے ان کی تردید میں خوب لکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فوٹوگرافی کی تصاویر جائز ہیں۔ دوسری طرف علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں وہ تصویر جائز ہے جس میں کوئی خاص فائدہ ہو یا جسے کسی ناگزیر ضرورت کے لیے بنایا جائے چنانچہ فرماتے ہیں، میں قارئین کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہم بڑے وثوق کے ساتھ ہر قسم کی تصویر کی حرمت کے قائل ہیں لیکن ہم اس تصویر کی ممانعت کے قائل نہیں جس میں فائدہ متحققه ہو اور اس کے ساتھ نقصان کا کوئی پہلو ثابت نہ ہو اور یہ فائدہ تصویر کے بغیر ممکن نہ ہو، مثلاً وہ تصویر میں جن کی طب اور ڈاکٹری کے سلسلہ میں یا جغرافیہ میں یا مجرموں کی شناخت کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ انھیں پہکڑا جاسکے یا لوگوں کو ان سے مطلع کیا جاسکے تو اس قسم کی تصویر میں جائز ہوں گی، بلکہ شاید بعض مخصوص اوقات میں واجب بھی ہوں، اس کی دلیل دو درج ذہلی حدیثیں ہیں۔

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ گڑیوں کے ساتھ کھیل کرتی تھیں اور آنحضرت ﷺ میری سیلیوں کو میرے پاس لے آیا کرتے تھے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔

اس حدیث کو سخاری (۱۰/۲۲۳) مسلم (۴/۱۲۵) احمد (۶/۶۶، ۲۲۳۲۳۲) میں روایت کیا ہے۔

الفاظ بھی امام احمد بھی کی روایت کے ہیں اور ابن سعد (۸/۶۶) نے روایت کیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے پاس گڑیاں تھیں اور جب آنحضرت ﷺ کو تشریف لاتے تو ان سے کہڑے کے ساتھ پر دہ کلیتے۔
محدث ابو عوانہ اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ یہ اس لیے کرتے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پنے کھیل کو ختم نہ کریں۔

اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ بچیوں کے لیے گڑیاں بنانا جائز ہے۔

آنحضرت ﷺ نے تصویروں کی بابت جو ممانعت فرمائی ہے یہ صورت اس سے مستثنی ہے۔ قاضی عیاض نے بھی بڑے وثوق کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے اور اسے جمیور کامنہ سب بتایا ہے۔ بچیوں کے لیے گڑیوں کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے تاکہ انھیں بچپن ہی سے امورِ خانہ داری کی تربیت دی جاسکے۔

۲۔ حضرت رجع بنت معوذ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عشوراء کی صحیح بستیوں (جودینہ منورہ کے گردو پیش تھیں) کی طرف پیغام بھجوایا کہ جس نے روزہ نہ رکھا ہو وہ دن



کا باقی حصہ بھی اسی حالت میں گزارے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے کو برقرار کئے۔ حضرت ربیع بیان فرماتی ہیں، کہ اس کے بعد ہم ہمیشہ روزے رکھتے تھے اور چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور انھیں پہنچ ساتھ مسجد میں بھی لے جایا کرتے تھے۔ ہم بچوں کو رونی کی گزیاں بنائیں کر دیا کرتے وہ انھیں پہنچ ساتھ مسجد میں بھی لے جایا کرتے تھے۔ جب کوئی بچہ کھانے کی وجہ سے روتا تو دل (بہلانے کے لیے) اسے گزیادے دیتے۔ حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ چھوٹے بچے جب ہم سے کھانا مانگتے تو ہم انھیں گزیاں دے دیتے تاکہ وہ ان سے کھلیتے رہیں اور پہنچ ساتھ مسجد میں بھی لے جائے۔ اسے بخاری (۱۶۲/۲) نے روایت کیا ہے الاظاظ بخاری ہی کے ہیں۔

مسلم (۱۰۲/۲) نے بھی اسے روایت کیا ہے اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں کچھ زائد الاظاظ بھی آئے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تصویر اس وقت جائز ہے جب اس سے مصلحت یا تربیت کا کوئی پہلو وابستہ ہو جو ہندہ ب نفوس، ثقافت یا تعلیم کے لیے مفید ہو، لہذا ایسی تمام تصویریں جن میں اسلام یا مسلمان کا کوئی فائدہ ہو جائز ہوں گی۔ البتہ مشائخ، بزرگوں اور دوستوں کی تصویریں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کافروں اور بتوں کے پیارلوں سے مشابہت کا باعث بنتی ہیں، حرام ہیں۔ واللہ اعلم (دعوت الی اللہ، ص: ۰۰)

بعض دیگر روایات میں بھی جواز کے اشارے موجود ہیں لیکن وہ سب مخصوص حالات میں ہے، عام نہیں۔

سودی عرب کے علماء محققین نے علی الاطلاق فوٹو کے جواز کا فتویٰ قطعاً صادر نہیں کیا بلکہ علامہ البانی کی طرح وہ بھی مخصوص حالات میں جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ میانت کبار علماء کی دائیٰ کمیٹی برائے بحث اور فتویٰ نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ زندہ چیزوں کی فوٹو لینی حرام ہے مگر جماں کوئی انتہائی ضرورت ہو، جس طرح کہ تابعیہ (رہائشی اجازت نامہ) پاسپورٹ اور فاسقت و فاجر اور لئیروں کی تصویریں ہیں تاکہ ان پر کڑی نگاہ رکھ کر جرام پر قابو پایا جائے اس کے علاوہ اسی طرح کی اور تصویریں لینے کا جواز ہے، جس کے بغیر چارہ کا رہ نہیں۔ (محلہ الجواث الاسلامیہ، ریاض، عدد: ۱۹، ص: ۱۲۸)

سودی کرنی نہیں پر بھی تصویر طبع کرنے کی اجازت اہل علم نے ناگزیر ضرورت کے پیش نظر دی ہے۔ عام حالات میں وہ بھی ممانعت کے قائل ہیں۔ ہمارے شیخ محمد روضہ رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں تصویر کا بننا تو کسی صورت درست نہیں اور بنی ہوئی کا استعمال دو شرطوں سے درست ہے۔ ایک یہ کہ مستقل نہ ہو، کپڑے وغیرہ میں نقش ہو۔ دو مہینچے رہے۔ بلند نہ لٹکائی جائے۔ پھر چند ایک احادیث سے اس نظریہ کا اثبات کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، فتاویٰ اہل حدیث جلد سوم، ص: ۳۲۵، ۳۲۶۔

واضح ہو کہ مسئلہ ہذا میں تدبید و عید کی پہنچ کئی ایک روایات وارد ہیں، جن کی صحت و حیثیت میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لہذا مجھے تولپنے ناقص علم کی حد تک واللہ اعلم اختیاط اس میں نظر آتی ہے کہ بعض احادیث سے اجازت کا پہلو جس انداز میں نکلتا ہے۔ معاملہ صرف انہی صورتوں پر محصور رکھا جائے۔ اور اس میں توسع سے احتراز کرتے ہوئے ظاہری نصوص سے تجاوز نہ کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب و علمہ اعلم

دورانِ تعلیم حضرت الشیخ محمد روضہ رحمی نے بھی فرمایا تھا کہ گزیا بنانے اور اس سے کھلینے کی رخصت صرف بچوں کے لیے ہے یہ اجازت عام نہیں۔

جناب والا فوٹو کی اجازت کو تلاش کرنے کی بجائے آپ کو ممانعت کی حدیتوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جن کے کتب احادیث میں انبالہ گئے ہوئے۔

جب یہ بات مسلمہ ہے کہ احکام الہی ابدی ہیں تو پھر خود کو شریعت کے مطابق ڈھلنے کی سعی کرنی چاہیے، فتنہ و فسادات کے زمانہ میں دین میں ترمیم کی سوچ خطرناک نظریہ ہے جس سے بچاؤ ہر صورت ضروری ہے۔

اللہ رب العزت. حملہ مسلمانوں کو دین حنیف پر استثماحت کی توفیق بخشنے۔ آمین

حداً ما عندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ



جعفرية عالمية إسلامية
البحوث الإسلامية
المركز الإسلامي للبحوث

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدینی

جلد: 3، کتاب اللباس: صفحہ: 494

محدث فتویٰ